

1695- حیوانات کے حمڑے سے بنی ہوئی مصنوعات کا حکم

سوال

حمڑے کے استعمال میں کیا اصول ہے، حمڑا چاہے اس جانور کا ہو جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، یا کسی اور جانور کا، چاہے ذبح کیا گیا ہو یا ذبح نہ کیا گیا ہو؟

پسندیدہ جواب

وہ جانور جو ذبح کرنے سے حلال ہو جاتے ہیں ان کا حمڑا پاک اور طاہر ہے، کیونکہ وہ ذبح کرنے سے پاک ہو گئے ہیں، مثلاً اونٹ، گائے، بخری، ہرن، خرگوش وغیرہ کا حمڑا، چاہے اس حمڑا کو دباغت دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو۔

لیکن جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا مثلاً کتے، بھیرے، شیر، اور ہاتھی وغیرہ کا حمڑا تو یہ نجس ہے، چاہے اسے ذبح کیا گیا ہو یا مر گیا، یا پھر مارا گیا ہو، اس لیے کہ اگر اسے ذبح بھی کر لیا جائے تو یہ نہ تو حلال ہوتا ہے، اور نہ ہی پاک، بلکہ یہ نجس ہی رہے گا، چاہے اسے دباغت دی گئی ہو یا پھر دباغت نہ دی گئی ہے، راجح قول یہی ہے۔

کیونکہ راجح قول یہ ہے کہ اگر ذبح کرنے سے جانور حلال نہ ہوتا ہو تو حمڑے کی نجاست دباغت دینے سے پاک نہیں ہوتی۔

اور ذبح کیے جانے والے مرے ہوئے جانور کا حمڑا یعنی اگر وہ جانور اپنی موت خود ہی مر جائے اور ذبح نہ کیا گیا ہو تو اس کا حمڑا دباغت دینے سے پاک ہو جاتی ہے، لیکن دباغت دینے سے قبل نجس ہے۔

چنانچہ حمڑے کی تین اقسام ہوں:

پہلی قسم:

طاہر اور پاک، چاہے اسے دباغت دی جائے یا نہ دی جائے، یہ ان جانوروں کا حمڑا ہے جو ذبح کیے گئے ہوں اور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔

دوسری قسم:

ایسے حمڑے جو نہ تو دباغت سے پہلے پاک ہوتے ہیں، اور نہ ہی دباغت کے بعد، بلکہ یہ نجس ہیں۔

یہ ان جانوروں کے حمڑے ہیں جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، مثلاً خنزیر۔

تیسری قسم:

ایسے حمڑے جو دباغت سے قبل پاک نہیں بلکہ دباغت کے بعد پاک ہو جاتے ہیں۔

یہ ان جانوروں کے حمڑے ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، لیکن بغیر ذبح کیے مر گئے ہوں۔

واللہ اعلم.